



BWP-24

نوٹ : ہر سوال کے چار جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں معروضی جوابی کاپی یا اصل شیٹ پر اس سوال نمبر کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو قلم کی سیاہی سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر پکارت کرکے کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔
Note : Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question

Classical School of thought was founded by :	کلاسیکی فکر کا بانی ہے :	سوال نمبر 1
(A) Robbins رابنز (B) Marshall مارشل (C) Adam Smith ایڈم سمٹھ (D) Keynes کیئز		(1)
Who wrote the book "Principles of Economics" :	کتاب "اصول معاشیات" کس نے لکھی :	(2)
(A) Robbins رابنز (B) Marshall مارشل (C) Adam Smith ایڈم سمٹھ (D) Keynes کیئز		
A Consumer is in equilibrium, when Marginal Utilities are :	ایک صارف توازن میں ہوتا ہے۔ جب حتمی افادے ہوں :	(3)
(A) Minimum کم سے کم (B) Maximum زیادہ سے زیادہ (C) Equal برابر (D) Increasing بڑھ رہے ہوں		
Marginal Utility at point of Saturation is :	نقطہ سیری پر حتمی افادہ ہوتا ہے :	(4)
(A) Minimum کم از کم (B) Maximum زیادہ سے زیادہ (C) Negative منفی (D) Zero صفر		
The general form of quadratic equation is :	دو درجی مساوات کی عمومی صورت ہے :	(5)
(A) $ax^2 + bx + cx = 0$ (B) $ax + bx + cx = 0$ (C) $ax + b = 0$ (D) $ax^2 + bx + c = 0$		
When demand curve shifts above on the right side, it is called :	جب خط طلب اوپر دائیں جانب منتقل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں :	(6)
(A) Fall of Demand طلب کا گرنا (B) Rise of Demand طلب کا بڑھنا (C) Extension of Demand طلب کا پھیلنا (D) Contraction of Demand طلب کا سکڑنا		
The cause of change and shift of demand curve is :	خط طلب کے منتقل ہونے کی وجہ ہوتی ہے :	(7)
(A) Price قیمت (B) Other factors دیگر عوامل (C) Supply رسد (D) Utility انادہ		
When Supply remains the same, inspite of increase in Price, it is called :	جب قیمت میں اضافے کے باوجود رسد تبدیل نہ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں :	(8)
(A) Fixed Supply معین رسد (B) Extension of Supply رسد کا پھیلنا (C) Contraction of Supply رسد کا سکڑنا (D) More Elastic زیادہ لچکدار		
When Price decreases, then Supply :	جب قیمت کم ہوتی ہے تو رسد :	(9)
(A) Expands بڑھتی ہے (B) Contracts سکڑتی ہے (C) Becomes Zero صفر ہوتی ہے (D) Remain Fixed معین رہتی ہے		
When demand and supply decreases equally then equilibrium price :	جب طلب اور رسد میں یکساں کمی ہو تو متوازن قیمت :	(10)
(A) Increases بڑھتی ہے (B) Decreases کم ہوتی ہے (C) No Change نہیں بدلتی (D) Falls گرتی ہے		
The factor of production whose supply is fixed Forever :	وہ عامل پیداوار جس کی رسد ہمیشہ معین ہوتی ہے :	(11)
(A) Land زمین (B) Labour مزدور (C) Capital سرمایہ (D) Organization تنظیم		
Which one is not a factor of Production :	کونسا عامل پیداوار نہیں ہے :	(12)
(A) Land زمین (B) Capital سرمایہ (C) Sky آسمان (D) Labour محنت		
Law of Diminishing Return mostly applies on :	قانون تنقیل حاصل کا زیادہ تر اطلاق ہوتا ہے :	(13)
(A) Agriculture زراعت پر (B) Industry صنعت پر (C) Banking بینکاری پر (D) Transportation نقل و حمل پر		
Law of Increasing return can be called :	قانون بکثیر حاصل کو کہا جاتا ہے :	(14)
(A) Constant Cost یکساں مصارف (B) Decreasing Cost تنقیل مصارف (C) Increasing Cost بکثیر مصارف (D) Variable Cost متغیر مصارف		
The Shape of average cost curve in the short run is :	عرصہ قلیل میں اوسط مصارف کے خط کی شکل ہوتی ہے :	(15)
(A) Vertical عمودی (B) Horizontal افقی (C) Like U کی مانند (D) Straight مستقیم		
When Marginal revenue of the firm is zero, then total revenues :	جب فرم کی حتمی وصولی صفر ہو تو کل وصولی ہوتی ہے :	(16)
(A) Minimum کم سے کم (B) Increases بڑھتی ہے (C) Decreases گرتی ہے (D) Maximum زیادہ سے زیادہ		
Average revenue is equal to :	اوسط وصولی برابر ہوتی ہے :	(17)
(A) TR / MR (B) TR / Q (C) Q / TR (D) Q / P		
An essential Condition for equilibrium of a firm is :	فرم کے توازن کی لازمی شرط ہے :	(18)
(A) $MR > MC$ (B) $MC > P$ (C) $MR = MC$ (D) $MC = AC$		
Speculative demand for money is the function of :	سہ بازی کے لیے زر کی طلب تقاضا ہے :	(19)
(A) Income آمدنی کا (B) Rate of Interest شرح سود کا (C) Investment سرمایہ کاری کا (D) Saving بچت کا		
Concept of Quasi rent was presented by :	نام نہاد لگان کا تصور پیش کیا :	(20)
(A) Ricardo ریکارڈو (B) Marshall مارشل (C) Keynes کیئز (D) Adam Smith ایڈم سمٹھ		

B

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 میں سے ہر سوال کے (8 -- 8) اجزاء کے جبکہ سوال نمبر 4 میں سے کوئی سے (09) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کیجئے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (8 -- 8) parts each from Q.No.2 and Q.No.3 while attempt any (09) parts from Q.No.4 and attempt any (03) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

50 = 2 x 25

(Part I) حصہ اول

Make Diagram where necessary. جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیے۔

Differentiate between Utility and Usefulness.

Write the definition of Economics presented by Robbins.

Explain Non-Economic Goods.

What is meant by Positive Science?

What is meant by Total Utility?

Define Law of Diminishing Marginal Utility.

Define the Indifference Curve.

Write two kinds of Function.

What is difference between Demand and Desire?

Write the Formula of Point Elasticity.

What is meant by Extension of Demand?

Define Elasticity of Demand.

What is meant by Stock?

Describe Long Period Supply.

What is meant by Fall in Supply?

What do you mean by Elasticity of Supply equal to one?

What is meant by Market Price?

Draw a diagram to show when Supply is constant but demand falls, what will be the effect on Price?

What is meant by Scale of Production?

Define Labour.

Differentiate between Wealth and Capital.

Define Unemployment.

What is meant by Large Scale of Production?

Define Law of Decreasing Cost.

Define Marginal Cost.

What is basic objective of a firm?

Define Monopoly.

What will be Slopes of AR and MR curves of firm under Perfect Competition?

What is meant by Advertisement?

What is meant by Total Revenue?

Show Normal Profit of a firm through diagram in long run under Perfect Competition.

Which is Price taker firm?

Write motives of demand for money according to Keynes.

What is meant by Real Wage?

Define Trade Union.

What is reward of Capital?

What is meant by Supply of Money?

30 = 10 x 3

(Part II) حصہ دوم

(10) Is Economics a science or Art? Explain it with arguments.

(10)

Explain Market Equilibrium with the help of Schedule and diagram.

(10)

Explain the Law of Decreasing Return with Schedule and diagram. Also explain its application.

(10)

Explain the relationship between Average Cost Curves and Marginal Cost Curves.

(10)

(10) Describe Pros and Cons of minimum wage.

سوال نمبر 5 کیا معاشیات علم ہے یا فن۔ دلائل سے وضاحت کیجئے۔

سوال نمبر 6 منہی کے توازن کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈائیگرام کریں۔

سوال نمبر 7 قانون تقبیل حاصل کی وضاحت کریں اور گوشوارہ اور ڈائیگرام بھی بنائیں نیز اس قانون کا اطلاق کس شعبہ پر زیادہ ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال نمبر 8 اوسط مصارف اور مختتم مصارف کے خطوط کا باہمی تعلق بیان کریں۔

سوال نمبر 9 اجرت اقل کے فائدے اور نقصانات بیان کیجئے۔